

# Shirk an Absolutely Unacceptable Act

By Mirza Ehteshamuddin - Jeddah

## False deities have no power to harm or benefit:

**Ash-Shirk ul-Akbar takes one outside the fold of Islam.** The opposite of Tawhid is expressed by the Arabic term Shirk (polytheism) derived from the root Sh-r-k which conveys the notion of "sharing" or "partnerships." The word Sharik (plural shurakaa) means "partner" or "associate." It encompasses far more than the more blatant (obvious) forms of idolatry and denial of Allah's Unity. The term Shirk means associating partners with Allah, and the related term mushrik is applied to someone guilty of such polytheistic association. Some examples of Shirk ad Du'a (invoking or supplicating to a false deity besides Allah are given. False deities have no power, Allah has all powers.

(1)  
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
(سُورَةُ الْمَائِدَةِ ٥/٧٦)

آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے

Say( O Mohammed to mankind) How do you worship besides Allah something which has no power either to harm or benefit you", (Surah Al-Maidah 5/76)

(2)  
وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ جَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ  
(سُورَةُ يُنُوسَ ١٠/١٠٦)

اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچاسکے اور نہ کوئی ضرر پہنچاسکے پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے

And do not invoke besides Allah that which neither benefits you nor harms you, for if you did, then indeed you would be of the wrongdoers.' (Surah Yunus 10/106)

(3)  
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
(سُورَةُ الْأَنْعَامِ ٦/١٧)

اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے

And if Allah should touch you with adversity (hardship), there is no remover of it except Him. And if He touches you with good – then He is over all things competent. (Surah Al-Anam 6/17)

(4)  
قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ  
(سُورَةُ الْأَنْعَامِ ٦/٧١)

آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے اور کیا ہم اللہ کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کردی ہے

Say, "Shall we invoke instead of Allah that which neither benefits us nor harms us and be turned back on our heels after Allah has guided us? (Surah Al-Anam 6/71)

(5)  
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ط بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  
(سُورَةُ الْفَتْحِ ٤٨/١١)

آپ فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچاتا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے

Say, "Then who could prevent Allah at all if He intended for you harm or intended for you benefit? (Surah Al-Fath 48/11)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ  
(سُورَةُ يُوسُفَ ١٠/٤٩)

آپ کہہ دیجئے کہ میں اختیار نہیں رکھتا اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کا اور نہ فائدے کا مگر وہ جو اللہ چاہے

Say, "I possess not for myself any harm or benefit except what Allah should will. (Surah Yunus 10/49)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ  
(سُورَةُ الْأَعْرَافِ ٧/١٨٨)

آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو

Say, "I hold not for myself [the power of] benefit or harm, except what Allah has willed. (Surah Al-Araf 7/188)

قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا  
(سُورَةُ الرَّعْدِ ١٣/١٦)

آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم پھر بھی اس کے سوا (اللہ کے سوا) اوروں کو حمایتی (کارساز) بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے

Say, "Have you then taken besides Him allies not possessing [even] for themselves any benefit or any harm?" (Surah Ar-Rad 13/16)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ لَا أَوْيِنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ  
(سُورَةُ الشُّعَرَاءِ ٢٦/٧٢-٧٣)

آپ (ابراہیم) نے کہا کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا تم کو نقصان دے سکتے ہیں

He(Ibrahim) said, "Do they hear you when you supplicate? Or do they benefit you, or do they harm?" (Surah Ash-Shuaraa 26/72-73)

أَرَعَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا - أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا  
(سُورَةُ الْفُرْقَانِ ٢٥/٤٤-٤٣)

کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خوبشات نفسانی کو بنا رکھا ہے پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے یا تو خیال کرتا ہے کہ اکثر ان میں سے سنتے یا سمجھتے ہیں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں

Have you seen him who chooses for his god his own lust (wish)? Would you then be guardian over him? Or do you think that most of them hear or understand? They are only like a cattle, no, but are more worse! (Surah Al-Furqan 25/043-044)

Remember: Whose Fatwas are better than Quraanic Fatawa, (Ref: Al-Quraan\_005.050, 045.006, 052.034, 077.050).

Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors

<http://global-right-path.webs.com> <http://global-right-path.blogspot.com> <http://www.global-right-path.com>

Email to [global-right-path+subscribe@googlegroups.com](mailto:global-right-path+subscribe@googlegroups.com) to subscribe